

## Jerry Coughlan Health & Wellness Centre

کمیونٹی اپ ڈیٹ - دسمبر 2020

### تعمیر جاری ہے!

ہم آپ کو Jerry Coughlan Health and Wellness Centre کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں، جس کا کافی دیر سے انتظار تھا۔

### نیا جدید ترین سینٹر

Jerry Coughlan Health and Wellness Centre ایک نیا، چار منزلہ بیرونی مریضوں کا طبی اور کمیونٹی صحت کا مرکز ہے جو North Pickering میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسے ہمارے ترقی کرتے علاقے میں ایک چھت تلے صحت کی نگہداشت کی خدمات کا ایک مکمل سلسلہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

خدمات میں دن میں سرجری کا عمل، فوری نگہداشت کا کلینک، اور دیگر Lakeridge Health خدمات شامل ہوں گی۔ عمارت میں موجود دیگر کرایہ دار تشخیصی ٹیسٹنگ، لیبارٹری کی خدمات، ایک فارمیسی اور دیگر مشاورتی فزیشنز کے کلینک کا ایک مکمل سلسلہ فراہم کریں گے - مریضوں اور خاندان کے ماحول میں سب کچھ جدید ترین اور مکمل قابل رسائی ہوں گے۔ نیا سینٹر Pickering میں 1690 Dersan Street پر واقع ہو گا اور 2020 کے وسط سے آخر تک کھلے گا۔

### اپنی کمیونٹی کی مدد

North Pickering ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی کمیونٹی ہے جس میں کمیونٹی پر مبنی صحت کی نگہداشت کی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ نیا سینٹر نگہداشت کے ایک مربوط ماڈل کا حامل ہو گا جو پورے ڈرہم کے علاقے سے ہسپتالوں، اور کمیونٹی کی صحت اور معالجین کی خدمات کے مابین پرسکون منتقلی میں مدد کرے گا، جو مریضوں اور نگہداشت کی ٹیم کا تجربہ بڑھائے گا۔



### تعمیر جاری ہے

اس ہفتے کھدائی اور سائٹ کے کاموں کے لئے سائٹ پر بھاری سازوسامان کے ساتھ تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ تمام تعمیراتی سرگرمیاں معمول کے کاروباری اوقات کے دوران انجام دی جائیں گی اور قریبی کے لیے کم سے کم خلل ہو گا۔

جاری تعمیراتی کام کے ساتھ، ہمارا ترقیاتی پارٹنر NorthWest Health کی نگہداشت کی معاونتی خدمات اور بہبود فراہم کنندگان کے ساتھ لیز کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے میں بھی مصروف عمل ہے، جو عمارت کا حصہ ہوں گے۔

### جلد آ رہی ہے - لائیو ویڈیو فیڈ

سائٹ پر بجلی دسمبر کے اوائل میں دستیاب ہو گی، جو لائیو ویڈیو فیڈ کو فعال کرے گی تا کہ آپ تعمیر کی پیش رفت کے دوران اسے دیکھ سکیں۔



نئے سینٹر کے منصوبوں کا اعلان اگست 2020 میں کیا گیا تھا، جب NorthWest Healthcare Properties REIT اور Lakeridge Health (NorthWest) نے دیگر حکومتی اور کمیونٹی پارٹنرز کے ساتھ باضابطہ افتتاح میں شرکت کی تھی جو سینٹر کی مستقبل کی سائٹ پر کیا گیا تھا۔

اس پروجیکٹ کی پیش رفت کے ساتھ ہم تازہ ترین معلومات باقاعدگی سے فراہم کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم Lakeridge Health کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا infoJCHWC@lh.ca پر ای میل کریں۔



ہم سے رابطہ رکھیں

WWW.LH.CA [infoJCHWC@lh.ca](mailto:infoJCHWC@lh.ca)

LakeridgeHealth  LakeridgeHealth 